

برائے فوری اجراء

سٹی نے ڈکسی 407 سپورٹس پارک کا نام تبدیل کر کے ایمینسپیشن پارک رکھ دیا اور اگست کے مہینے کو برامپٹن میں ایمینسپیشن منتہ قرار دے دیا

برامپٹن، آن (1 اگست 2020) – مورخہ 8 جولائی کو، برامپٹن سٹی کونسل نے غلامی کے خاتمے کی یاد میں ڈکسی 407 سپورٹس پارک کا نام تبدیل کر کے ایمینسپیشن پارک رکھنے کی قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ یہ قرارداد سٹی کونسلر شامین ولیمز نے پیش کی اور کونسل کے اراکین نے اسے منظور کیا۔ جس کے مطابق اس سال، 1 اگست کو برامپٹن کو ایمینسپیشن ڈے اور اگست کو ایمینسپیشن منتہ قرار دے دیا گیا۔

ایمینسپیشن پارک

ڈکسی 407 سپورٹس پارک کا نام تبدیل کر کے ایمینسپیشن پارک رکھ دیا گیا ہے۔ وارڈ 7 میں ہائی وے 407 کے جنوب میں واقع یہ پارک 2004 میں تعمیر ہوا تھا اور اس میں ساکر کی چھوٹی اور بڑی پچز اور کرکٹ کے میدان موجود ہیں۔

میئر پیٹرک براؤن اور کونسلرز اگست میں پارک کے نئے نام کی تختی کی پردہ کشائی کریں گے۔

ایمینسپیشن منتہ

1 اگست برامپٹن میں ایمینسپیشن ڈے ہے اور اگست ایمینسپیشن منتہ ہے۔ سٹی آف برامپٹن پورے اگست میں تقریبات کے ساتھ برامپٹن کے تنوع کو منانے اور اس اہم دن اور شہر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد دینے کے لیے، تمام تقریبات آن لائن طور پر منعقد ہوں گی۔ تقریبات کی مکمل فہرست کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔

ورچوئل پرچم کشائی کی تقریب ایمینسپیشن ڈے کے لیے 1 اگست کو ہو گی جبکہ 6 اگست کو جمیکا کے یوم آزادی کے لیے، 22 اگست کو ڈومینکن ریپبلک ریستوریشن ڈے اور 31 اگست کو ٹریبیڈیٹ اینڈ ٹوباگو کے یوم آزادی کے لیے ہو گی۔ تمام ورچوئل پرچم کشائیاں www.brampton.ca پر آن لائن طور پر دستیاب ہوں گی۔

برامپٹن کی بلیک ایفریقن اینڈ کیریبین سوشل، کلچرل اینڈ اکنامک امپاورمنٹ اینڈ اینٹی بلیک ریس ایزم یونٹ

10 جون 2020 کو برامپٹن سٹی کونسل نے بلیک ایفریقن اینڈ کیریبین سوشل، کلچرل اینڈ اکنامک امپاورمنٹ اینڈ اینٹی بلیک ریس ایزم یونٹ کی منظوری دی۔ سینئر ایڈوائزر، گوئینتھ چیپ مین کی سربراہی میں، یہ ٹیم اس یونٹ کے قیام کو ممکن بنائے گی اور اس کی سربراہی کرے گی اور سیاہ فام افراد کے خلاف برامپٹن کے نظام میں ممکنہ طور پر پائی جانے والی نسل پرستی کے خلاف منصوبہ کار تیار کرے گی۔ مقامی کمیونٹی کے اہم فریقین کی رہنمائی کے ساتھ، اس کا کام برامپٹن کی سیاہ فام کمیونٹی کی سماجی، ثقافتی اور معاشی حالت کو بہتر کرنے پر مرکوز ہو گا۔

مزید جاننے یا سٹی کی جانب سے اینٹی بلیک ریس ایزم یونٹ کی تیاری میں شامل ہونے میں دلچسپی ظاہر کرنے کے لیے، براہ کرم سٹی سے AntiBlackRacismUnit@brampton.ca پر رابطہ کریں۔

اقتباسات

"ہمیں پوری دنیا میں ایک تاریخی وقت نظر آ رہا ہے۔ تمام پس منظروں کے حامل لوگ سیاہ فام افراد کے خلاف نظام میں موجود ممکنہ نسل پرستی کو مل جل کر ختم کرنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یہاں برامپٹن میں، ایمینسپیشن منتہ کو خراج تحسین پیش کرنا اور ایک سٹی پارک کا نام ایمینسپیشن پارک رکھنا ہمارے لیے ماضی کو تسلیم کرنے اور اس بات کو دہرانے کا ایک طاقتور طریقہ ہے کہ ہم برامپٹن کی سیاہ فام کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن کی تاریخ میں سٹی کونسل میں منتخب ہونے والی پہلی سیاہ فام خاتون کے طور پر، مجھے اکتوبر 2019 میں آزادی کو تسلیم کرنے کی قرارداد پیش کرنے پر فخر ہے۔ جب میں نے اس قرارداد کو سامنے لایا، تو سیاہ فام افراد کے خلاف نسل پرستی کے متعلق ہماری سمجھ کو بڑھانے والے حالیہ واقعات کو پہلے سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ تاہم، مجھے یہ کہنے پر بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ ایمینسپیشن پارک برامپٹن میں موجود ہو گا۔ میرے علم کے مطابق، یہ کینیڈا کا پہلا ایمینسپیشن پارک ہے۔ میں سیاہ فام افراد کے خلاف نسل پرستی کی جڑوں کی تاریخی سمجھ بوجھ کو بڑھانے کے لیے مزید اقدامات دیکھنے کے لیے پر امید ہوں، جبکہ ہم انسانی توانائیوں کو روک کر رکھنے والی رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔"

- شارمین ولیمز، ریجنل کونسلر، وارڈز 7 اور 8

"پچھلے مہینے، سٹی کونسل نے برامپٹن کی سیاہ فام کمیونٹی کے ساتھ مربوط ہونے اور ان کے سماجی، ثقافتی اور معاشی مقام کو بہتر بنانے کے لیے بلیک ایفریقن اینڈ کیریبین سوشل، کلچرل اینڈ اکنامک امپاورمنٹ اینڈ اینٹی بلیک ریس ازم یونٹ کی منظوری دی۔ اب، اس کے صرف ایک مہینے کے بعد، ہم اپنی تاریخ کے اس اہم حصے کو نمایاں کرنے کے لیے ایک کمیونٹی پارک کا نام تبدیل کر رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے، ہم سیاہ فام کمیونٹی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان کے ساتھ کام کرنا جاری رکھیں گے۔"

- ہیٹ فورٹینی، ریجنل کونسلر، وارڈز 7 اور 8

"ایمینسپیشن منتھ کو اعزاز بخشنا اور برامپٹن کے ایک حصے کا نام تبدیل کر کے ایمینسپیشن پارک رکھنا برامپٹن کے لیے آگے کی جانب بڑھنے کے بڑے اقدامات ہیں۔ لوگوں کے لیے تاریخ کو جاننا اور اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ کینیڈا میں غلامی موجود تھی۔ پارک کا نام تبدیل کرنے جیسی تحریکیں مجھے اعتماد دیتی ہیں کہ ہم برامپٹن میں بہت ترقی کریں گے۔"

- گوئیٹھ جیپ مین، سینیئر ایڈوائزر، اکنامک امپاورمنٹ اینڈ اینٹی بلیک ریس ازم، سٹی آف برامپٹن

--30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ www.brampton.ca پر انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca